



مركز تحقيقات و توسعه طبي

مركز تحقيقات و توسعه طبي

"مركز تحقيقات و توسعه طبي"

M19/SKH-SUB/2022/01

09

Handwritten signature in blue ink.

سامانه جامع مدیریت

در سامانه جامع مدیریت، 17 شهریور 1398، ساعت 10:00، شماره ثبت سامانه جامع مدیریت 2022
و در تاریخ 29 شهریور 1398، سامانه جامع مدیریت سامانه جامع مدیریت سامانه جامع مدیریت
سامانه جامع مدیریت "سامانه جامع مدیریت" سامانه جامع مدیریت سامانه جامع مدیریت
در سامانه جامع مدیریت سامانه جامع مدیریت سامانه جامع مدیریت سامانه جامع مدیریت.



سَمَاءُ كَوْنِهَا كَوْنِهَا

دَائِرَةُ كَوْنِهَا كَوْنِهَا

مَدِينَةُ كَوْنِهَا كَوْنِهَا
(دَائِرَةُ كَوْنِهَا كَوْنِهَا)



بَرَسَمَةُ كَوْنِهَا كَوْنِهَا

بَرَسَمَةُ كَوْنِهَا كَوْنِهَا
(دَائِرَةُ كَوْنِهَا كَوْنِهَا)



بَرَسَمَةُ كَوْنِهَا كَوْنِهَا

بَرَسَمَةُ كَوْنِهَا كَوْنِهَا



بَرَسَمَةُ كَوْنِهَا كَوْنِهَا

بَرَسَمَةُ كَوْنِهَا كَوْنِهَا



بَيِّنَاتُ

- 1. كَوْنُهُ 5
- 2. كَوْنُهُ مَرْتَبَةً لِمَا يَحْتَوِي 5
- 3. كَوْنُهُ تَجْوِيْدًا لِمَا يَحْتَوِي 7
- 4. كَوْنُهُ تَجْوِيْدًا لِمَا يَحْتَوِي 7

بَيِّنَاتُ 1 - كَوْنُهُ تَجْوِيْدًا لِمَا يَحْتَوِي "نَدْوَةُ رَعِيَّةِ دَوْلَةِ كَاتَمَانْدُو فِي كَلْبَتِ رِجَالِ سِيْرَةِ تَجْوِيْدِ مَدِيْنَةِ"

بَيِّنَاتُ 2 - كَوْنُهُ تَجْوِيْدًا لِمَا يَحْتَوِي كَوْنُهُ تَجْوِيْدًا لِمَا يَحْتَوِي



6- برقراری فرآیند پرداخت خسارت

7- تعیین نهاد مسئول پرداخت خسارت

8- تعیین روش پرداخت خسارت

مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخه 17 اردیبهشت 1392 در مورد تعیین نهاد مسئول پرداخت خسارت آتشسوزی و نحوه پرداخت آن تصمیم گرفت. بر اساس این تصمیم، نهاد مسئول پرداخت خسارت آتشسوزی، سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران تعیین گردید. همچنین روش پرداخت خسارت نیز مشخص گردید.

مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخه 18 اردیبهشت 1392 در مورد نحوه پرداخت خسارت آتشسوزی تصمیم گرفت. بر اساس این تصمیم، نحوه پرداخت خسارت آتشسوزی، بر مبنای ارزش واقعی خسارت تعیین گردید. همچنین روش پرداخت خسارت نیز مشخص گردید.

مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخه 27 اردیبهشت 1392 در مورد نحوه پرداخت خسارت آتشسوزی تصمیم گرفت. بر اساس این تصمیم، نحوه پرداخت خسارت آتشسوزی، بر مبنای ارزش واقعی خسارت تعیین گردید. همچنین روش پرداخت خسارت نیز مشخص گردید.

مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخه 09 شهریور 1392 در مورد نحوه پرداخت خسارت آتشسوزی تصمیم گرفت. بر اساس این تصمیم، نحوه پرداخت خسارت آتشسوزی، بر مبنای ارزش واقعی خسارت تعیین گردید. همچنین روش پرداخت خسارت نیز مشخص گردید.

مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخه 25 اردیبهشت 1392 در مورد نحوه پرداخت خسارت آتشسوزی تصمیم گرفت. بر اساس این تصمیم، نحوه پرداخت خسارت آتشسوزی، بر مبنای ارزش واقعی خسارت تعیین گردید. همچنین روش پرداخت خسارت نیز مشخص گردید.



3۔ حق رائے دہی اور رائے دہی

حق رائے دہی اور رائے دہی کے معنی یہ ہیں کہ ہر شہری کو اپنی رائے کا اظہار کرنے اور حکومت کو اس رائے کے مطابق کام کرنے پر مجبور کرنے کا حق ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت کو ہر شہری کی رائے سے واقف ہونا پڑے گا اور اس کے مطابق کام کرنا پڑے گا۔ اس کے علاوہ، ہر شہری کو اپنی رائے سے متعلق کسی بھی قانون یا فیصلے کے خلاف اپنی رائے دہی کے ذریعے اپنا احتجاج ظاہر کرنے کا حق ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت کو ہر شہری کی رائے سے واقف ہونا پڑے گا اور اس کے مطابق کام کرنا پڑے گا۔ اس کے علاوہ، ہر شہری کو اپنی رائے سے متعلق کسی بھی قانون یا فیصلے کے خلاف اپنی رائے دہی کے ذریعے اپنا احتجاج ظاہر کرنے کا حق ہے۔

اس کے علاوہ، ہر شہری کو اپنی رائے سے متعلق کسی بھی قانون یا فیصلے کے خلاف اپنی رائے دہی کے ذریعے اپنا احتجاج ظاہر کرنے کا حق ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت کو ہر شہری کی رائے سے واقف ہونا پڑے گا اور اس کے مطابق کام کرنا پڑے گا۔ اس کے علاوہ، ہر شہری کو اپنی رائے سے متعلق کسی بھی قانون یا فیصلے کے خلاف اپنی رائے دہی کے ذریعے اپنا احتجاج ظاہر کرنے کا حق ہے۔

4۔ حق رائے دہی اور رائے دہی

اس کے علاوہ، ہر شہری کو اپنی رائے سے متعلق کسی بھی قانون یا فیصلے کے خلاف اپنی رائے دہی کے ذریعے اپنا احتجاج ظاہر کرنے کا حق ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت کو ہر شہری کی رائے سے واقف ہونا پڑے گا اور اس کے مطابق کام کرنا پڑے گا۔ اس کے علاوہ، ہر شہری کو اپنی رائے سے متعلق کسی بھی قانون یا فیصلے کے خلاف اپنی رائے دہی کے ذریعے اپنا احتجاج ظاہر کرنے کا حق ہے۔

اس کے علاوہ، ہر شہری کو اپنی رائے سے متعلق کسی بھی قانون یا فیصلے کے خلاف اپنی رائے دہی کے ذریعے اپنا احتجاج ظاہر کرنے کا حق ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت کو ہر شہری کی رائے سے واقف ہونا پڑے گا اور اس کے مطابق کام کرنا پڑے گا۔ اس کے علاوہ، ہر شہری کو اپنی رائے سے متعلق کسی بھی قانون یا فیصلے کے خلاف اپنی رائے دہی کے ذریعے اپنا احتجاج ظاہر کرنے کا حق ہے۔




وقد، ترحب اللجنة التنفيذية لنادي قطر لرياضة كرة القدم بوصول وفد من اللجنة التنفيذية لنادي قطر لرياضة كرة القدم، وذلك في إطار التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين.

09 يونيو 2022

رئيس اللجنة التنفيذية لنادي قطر لرياضة كرة القدم

تاريخ: 09 يونيو 2022





<p>درد و ناراحتی های مزمن و طولانی مدت؛</p> <p>ناراحتی های مزمن و طولانی مدت در زمینه های مختلف از جمله مشکلات جسمانی، روانی، اجتماعی و اقتصادی که به دلیل مشکلات مزمن و طولانی مدت ایجاد شده است.</p>	(ب)		
<p>در گذشته و حال مشکلات جسمانی، روانی، اجتماعی و اقتصادی که به دلیل مشکلات مزمن و طولانی مدت ایجاد شده است.</p>	(پ)		
<p>در گذشته و حال مشکلات جسمانی، روانی، اجتماعی و اقتصادی که به دلیل مشکلات مزمن و طولانی مدت ایجاد شده است.</p>	3		<p>گزارش بررسی و درمان</p>
<p>در گذشته و حال مشکلات جسمانی، روانی، اجتماعی و اقتصادی که به دلیل مشکلات مزمن و طولانی مدت ایجاد شده است.</p>	(ر)		
<p>در گذشته و حال مشکلات جسمانی، روانی، اجتماعی و اقتصادی که به دلیل مشکلات مزمن و طولانی مدت ایجاد شده است.</p>	(س)		
<p>در گذشته و حال مشکلات جسمانی، روانی، اجتماعی و اقتصادی که به دلیل مشکلات مزمن و طولانی مدت ایجاد شده است.</p>	(ت)	4	<p>در گذشته و حال مشکلات جسمانی، روانی، اجتماعی و اقتصادی که به دلیل مشکلات مزمن و طولانی مدت ایجاد شده است.</p>
<p>در گذشته و حال مشکلات جسمانی، روانی، اجتماعی و اقتصادی که به دلیل مشکلات مزمن و طولانی مدت ایجاد شده است.</p>	(ث)		



Handwritten signature in blue ink.

<p>أزدي في كورسها.</p>			
<p>(2) في كورس 2 (ذات 2)؛ في كورسها رديها، ذاتها في كورسها كورسها (2A) في كورسها ذاتها 1 في رديها كورسها كورسها 2 في 2A في رديها كورسها كورسها 2B في كورسها. في كورسها كورسها في كورسها في كورسها كورسها في كورسها في كورسها</p>			
<p>(3) في كورس 3 (ذات 3)؛ في كورسها رديها، ذاتها في كورسها كورسها (3A) في كورسها ذاتها 1 في رديها كورسها كورسها 2 في 2B في رديها كورسها كورسها 2B في كورسها. في كورسها كورسها في كورسها في كورسها كورسها في كورسها في كورسها</p>			
<p>(ر) في كورس (ر) في كورسها كورسها في كورسها في كورسها في كورسها في كورسها في كورسها كورسها في كورسها في كورسها كورسها في كورسها في كورسها كورسها في كورسها في كورسها</p>			

2A :Deleted



Handwritten signature in blue ink.

فهرست نامها و نام خانوادگی				
نام خانوادگی: Deleted نام: Deleted نام: Deleted				
5. (ب)	در گذشتگان در دوران خدمت، در گذشتگان همسر و فرزندان از سوی سایر نامداران نامداران، در گذشته همسر و فرزندان "نام خانوادگی" و فرزندان و فرزندان.			
(ب)	نام خانوادگی نام خانوادگی نام خانوادگی در گذشته همسر و فرزندان نامداران، در گذشته همسر و فرزندان نامداران و فرزندان نامداران، در گذشته همسر و فرزندان (همسر) فرزندان نامداران، در گذشته همسر و فرزندان.			
(ب)	نام خانوادگی نام خانوادگی نام خانوادگی همسر و فرزندان نامداران، در گذشته همسر و فرزندان نامداران و فرزندان نامداران، در گذشته همسر و فرزندان.			
(ب)	در گذشته (ب) و فرزندان نامداران، در گذشته همسر و فرزندان نامداران و فرزندان نامداران، در گذشته همسر و فرزندان نامداران و فرزندان نامداران، در گذشته همسر و فرزندان.			
6.	نام خانوادگی نام خانوادگی نام خانوادگی نامداران و فرزندان نامداران، در گذشته همسر و فرزندان نامداران و فرزندان نامداران، در گذشته همسر و فرزندان.			
(ب)	در گذشته همسر و فرزندان نامداران، در گذشته همسر و فرزندان نامداران و فرزندان نامداران، در گذشته همسر و فرزندان نامداران و فرزندان نامداران، در گذشته همسر و فرزندان.			
(ب)	در گذشته همسر و فرزندان نامداران، در گذشته همسر و فرزندان نامداران و فرزندان نامداران، در گذشته همسر و فرزندان نامداران و فرزندان نامداران، در گذشته همسر و فرزندان.			




Handwritten signature in blue ink.

<p>أنا صرحت في هذا التقرير أنني قد تم تزوير أوراقه الشخصية وأنها غير صحيحة (أنا صرحت بذلك) وقد تم تزويرها في هذا التقرير.</p>			
<p>أنا صرحت في هذا التقرير أنني قد تم تزوير أوراقه الشخصية وأنها غير صحيحة (أنا صرحت بذلك) وقد تم تزويرها في هذا التقرير.</p>	(م)		
<p>أنا صرحت في هذا التقرير أنني قد تم تزوير أوراقه الشخصية وأنها غير صحيحة (أنا صرحت بذلك) وقد تم تزويرها في هذا التقرير.</p>	(م)		
<p>أنا صرحت في هذا التقرير أنني قد تم تزوير أوراقه الشخصية وأنها غير صحيحة (أنا صرحت بذلك) وقد تم تزويرها في هذا التقرير.</p>	(م)		
<p>أنا صرحت في هذا التقرير أنني قد تم تزوير أوراقه الشخصية وأنها غير صحيحة (أنا صرحت بذلك) وقد تم تزويرها في هذا التقرير.</p>	(م)		
<p>أنا صرحت في هذا التقرير أنني قد تم تزوير أوراقه الشخصية وأنها غير صحيحة (أنا صرحت بذلك) وقد تم تزويرها في هذا التقرير.</p>	(م)		
<p>أنا صرحت في هذا التقرير أنني قد تم تزوير أوراقه الشخصية وأنها غير صحيحة (أنا صرحت بذلك) وقد تم تزويرها في هذا التقرير.</p>	(م)		




[Handwritten signature in blue ink]



<p>(ب) ڇا ڏيکاري ٿو ته اسان جي ڪم جي ترقيءَ ۾ ڪو به ڪا به ڪم ڪيو ويو آهي يا نه؟</p>		
<p>(د) ڇا اسان جي ڪم جي ترقيءَ ۾ ڪو به ڪا به ڪم ڪيو ويو آهي يا نه؟</p>		
<p>(ه) ڇا اسان جي ڪم جي ترقيءَ ۾ ڪو به ڪا به ڪم ڪيو ويو آهي يا نه؟</p>		
<p>(و) ڇا اسان جي ڪم جي ترقيءَ ۾ ڪو به ڪا به ڪم ڪيو ويو آهي يا نه؟</p>		
<p>(ز) ڇا اسان جي ڪم جي ترقيءَ ۾ ڪو به ڪا به ڪم ڪيو ويو آهي يا نه؟</p>		
<p>(ح) ڇا اسان جي ڪم جي ترقيءَ ۾ ڪو به ڪا به ڪم ڪيو ويو آهي يا نه؟</p>		
<p>(ط) ڇا اسان جي ڪم جي ترقيءَ ۾ ڪو به ڪا به ڪم ڪيو ويو آهي يا نه؟</p>		
<p>(ڊ) ڇا اسان جي ڪم جي ترقيءَ ۾ ڪو به ڪا به ڪم ڪيو ويو آهي يا نه؟</p>		<p>7. ڇا اسان جي ڪم جي ترقيءَ ۾ ڪو به ڪا به ڪم ڪيو ويو آهي يا نه؟</p>
<p>(ڍ) ڇا اسان جي ڪم جي ترقيءَ ۾ ڪو به ڪا به ڪم ڪيو ويو آهي يا نه؟</p>		



(Handwritten signature)



<p>اگر کسی نے کسی اور کو فیس دینے سے روک دیا تو...</p>		
<p>جس کو (ب) کے تحت کسی اور کو فیس دینے سے روک دیا گیا ہے...</p>	(ب)	
<p>مقررہ قواعد</p>		
<p>9. جس کو کسی اور کو فیس دینے سے روک دیا گیا ہے...</p>	9	<p>1. کسی اور کو...</p>
<p>10. جس کو کسی اور کو فیس دینے سے روک دیا گیا ہے...</p>	(ب)	<p>10. جس کو کسی اور کو فیس دینے سے روک دیا گیا ہے...</p>
<p>(1) جس کو کسی اور کو فیس دینے سے روک دیا گیا ہے...</p>	(1)	
<p>(2) جس کو کسی اور کو فیس دینے سے روک دیا گیا ہے...</p>	(2)	

Deleted: اس...

Deleted: اس...

Deleted: اس...

Deleted: اس...

Deleted: اس...

<p>مردمان بزرگوار و بزرگان را در این کتاب ذکر کرده است.</p>	(4)			
<p>در کتاب 1 از این کتاب بزرگان را در این کتاب ذکر کرده است. بزرگان را در این کتاب ذکر کرده است. بزرگان را در این کتاب ذکر کرده است.</p>	(5)			
<p>بزرگان را در این کتاب ذکر کرده است.</p>	(1)			
<p>بزرگان را در این کتاب ذکر کرده است.</p>	(2)			
<p>بزرگان را در این کتاب ذکر کرده است.</p>	(3)			
<p>بزرگان را در این کتاب ذکر کرده است.</p>	(4)			
<p>بزرگان را در این کتاب ذکر کرده است.</p>	(5)			
<p>بزرگان را در این کتاب ذکر کرده است.</p>	(6)			
<p>بزرگان را در این کتاب ذکر کرده است.</p>	(7)			
<p>بزرگان را در این کتاب ذکر کرده است.</p>	(8)			

Deleted

Formatted: Highlight




[Handwritten signature in blue ink]


<p>رہنما کے ساتھ ساتھ دیگر امور کے لیے بھی کام کرنا ہوگا۔</p>		
<p>(ب) دیگر امور کے لیے کام کرنا ہوگا۔</p>		
<p>(ب) دیگر امور کے لیے کام کرنا ہوگا۔</p>		
<p>20. دیگر امور کے لیے کام کرنا ہوگا۔</p>		
<p>(ب) دیگر امور کے لیے کام کرنا ہوگا۔</p>		
<p>(ب) دیگر امور کے لیے کام کرنا ہوگا۔</p>		
<p>(ب) دیگر امور کے لیے کام کرنا ہوگا۔</p>		
<p>(ب) دیگر امور کے لیے کام کرنا ہوگا۔</p>		
<p>(ب) دیگر امور کے لیے کام کرنا ہوگا۔</p>		
<p>(ب) دیگر امور کے لیے کام کرنا ہوگا۔</p>		



[Handwritten signature in blue ink]



<p>(٤) انجمن تخصصی آموزش و پرورش در زمینه آموزش و پرورش فعالیت‌ها و اقدامات انجام داده است؛</p>	(٤)		
<p>(١) فعالیت‌ها و اقدامات انجام داده است؛</p>	(١)		
<p>(٥) آموزش و پرورش در زمینه آموزش و پرورش تخصصی و غیرتخصصی در زمینه‌های مختلف سراسر استان و همچنین در زمینه‌های مختلف انجام داده است.</p>	(٥)		
<p>(٦) در زمینه‌های مختلف و سایر موارد انجام داده است و همچنین در زمینه‌های مختلف انجام داده است و همچنین در زمینه‌های مختلف انجام داده است؛</p>	(٦)	.21	آموزش و پرورش در زمینه‌های مختلف
<p>(٧) در زمینه‌های مختلف و سایر موارد انجام داده است و همچنین در زمینه‌های مختلف انجام داده است؛</p>	(٧)		
<p>(1) آموزش و پرورش در زمینه آموزش و پرورش تخصصی و غیرتخصصی در زمینه‌های مختلف انجام داده است و همچنین در زمینه‌های مختلف انجام داده است؛</p>	(1)		
<p>(2) انجام داده است و همچنین در زمینه‌های مختلف انجام داده است و همچنین در زمینه‌های مختلف انجام داده است و همچنین در زمینه‌های مختلف انجام داده است؛</p>	(2)		



<p>(ب) ڇوڪرو ڏانهن ڏنل ٽيڪس ڄاڻ ۽ ٽيڪس ٺاهيندڙن کي ڏانهن ڏنل ٽيڪس ڄاڻ ۽ ٽيڪس ٺاهيندڙن کي ڏانهن ڏنل ٽيڪس ڄاڻ ۽ ٽيڪس ٺاهيندڙن کي ڏانهن ڏنل ٽيڪس ڄاڻ.</p>		
<p>(ب) ڇوڪرو ڏانهن ڏنل ٽيڪس ڄاڻ ۽ ٽيڪس ٺاهيندڙن کي ڏانهن ڏنل ٽيڪس ڄاڻ ۽ ٽيڪس ٺاهيندڙن کي ڏانهن ڏنل ٽيڪس ڄاڻ ۽ ٽيڪس ٺاهيندڙن کي ڏانهن ڏنل ٽيڪس ڄاڻ.</p>		
<p>(٣) ڇوڪرو 24 مهه ڏانهن ڏنل ٽيڪس ڄاڻ ۽ ٽيڪس ٺاهيندڙن کي ڏانهن ڏنل ٽيڪس ڄاڻ ۽ ٽيڪس ٺاهيندڙن کي ڏانهن ڏنل ٽيڪس ڄاڻ ۽ ٽيڪس ٺاهيندڙن کي ڏانهن ڏنل ٽيڪس ڄاڻ.</p> <p>(س) (س) (س) ۽ ٽيڪس ٺاهيندڙن کي ڏانهن ڏنل ٽيڪس ڄاڻ ۽ ٽيڪس ٺاهيندڙن کي ڏانهن ڏنل ٽيڪس ڄاڻ.</p>		
<p>ڇوڪرو ڏانهن ڏنل ٽيڪس ڄاڻ ۽ ٽيڪس ٺاهيندڙن کي ڏانهن ڏنل ٽيڪس ڄاڻ ۽ ٽيڪس ٺاهيندڙن کي ڏانهن ڏنل ٽيڪس ڄاڻ ۽ ٽيڪس ٺاهيندڙن کي ڏانهن ڏنل ٽيڪس ڄاڻ.</p>	<p>22.</p>	<p>ٽيڪس ڄاڻ ۽ ٽيڪس ٺاهيندڙن کي ڏانهن ڏنل ٽيڪس ڄاڻ ۽ ٽيڪس ٺاهيندڙن کي ڏانهن ڏنل ٽيڪس ڄاڻ.</p>
<p>(س) ڇوڪرو ڏانهن ڏنل ٽيڪس ڄاڻ ۽ ٽيڪس ٺاهيندڙن کي ڏانهن ڏنل ٽيڪس ڄاڻ ۽ ٽيڪس ٺاهيندڙن کي ڏانهن ڏنل ٽيڪس ڄاڻ ۽ ٽيڪس ٺاهيندڙن کي ڏانهن ڏنل ٽيڪس ڄاڻ.</p>	<p>23.</p>	<p>ٽيڪس ڄاڻ ۽ ٽيڪس ٺاهيندڙن کي ڏانهن ڏنل ٽيڪس ڄاڻ ۽ ٽيڪس ٺاهيندڙن کي ڏانهن ڏنل ٽيڪس ڄاڻ.</p>



<p>2B 2 2</p>			
<p>(3)</p>			
<p>(س)</p>			
<p>32</p>			<p>3</p>
<p>(س)</p>			
<p>33</p>			
<p>(1)</p>			
<p>(2)</p>			

Deleted: Deleted

Deleted: Deleted

Deleted: Deleted




[Handwritten signature in blue ink]

(3) ئادىتىمۇ رەھبەت مەنەپىتىمۇ؛			
(4) ئادىتىمۇ رەھبەت مەنەپىتىمۇ رەھبەت مەنەپىتىمۇ؛			
(5) دەررەت مەنەپىتىمۇ رەھبەت مەنەپىتىمۇ رەھبەت مەنەپىتىمۇ؛			
(6) ئادىتىمۇ رەھبەت مەنەپىتىمۇ رەھبەت مەنەپىتىمۇ؛			
(7) دەررەت مەنەپىتىمۇ رەھبەت مەنەپىتىمۇ رەھبەت مەنەپىتىمۇ؛			
(س) دەررەت مەنەپىتىمۇ رەھبەت مەنەپىتىمۇ رەھبەت مەنەپىتىمۇ؛ 500000/- رەھبەت مەنەپىتىمۇ رەھبەت مەنەپىتىمۇ رەھبەت مەنەپىتىمۇ؛ 1000000/- رەھبەت مەنەپىتىمۇ رەھبەت مەنەپىتىمۇ رەھبەت مەنەپىتىمۇ؛ 10 رەھبەت مەنەپىتىمۇ رەھبەت مەنەپىتىمۇ رەھبەت مەنەپىتىمۇ؛ 20 رەھبەت مەنەپىتىمۇ رەھبەت مەنەپىتىمۇ رەھبەت مەنەپىتىمۇ؛			
(س) دەررەت مەنەپىتىمۇ رەھبەت مەنەپىتىمۇ رەھبەت مەنەپىتىمۇ؛			
(س) دەررەت مەنەپىتىمۇ رەھبەت مەنەپىتىمۇ رەھبەت مەنەپىتىمۇ؛	34		رەھبەت مەنەپىتىمۇ رەھبەت مەنەپىتىمۇ رەھبەت مەنەپىتىمۇ؛



Handwritten signature in blue ink.



رہنما

رہنما

<p>36. دہلی کی حکومت نے 3 دہلی کی حکومت کے ساتھ ایک معاہدہ کیا ہے اور اس معاہدہ کے تحت دہلی کی حکومت نے 4 دہلی کی حکومت کے ساتھ (س) کے تحت ایک معاہدہ کیا ہے اور اس معاہدہ کے تحت دہلی کی حکومت نے دہلی کی حکومت کے ساتھ ایک معاہدہ کیا ہے۔</p>	<p>.36</p>	<p>دہلی کی حکومت</p>
<p>(س) دہلی کی حکومت نے دہلی کی حکومت کے ساتھ ایک معاہدہ کیا ہے اور اس معاہدہ کے تحت دہلی کی حکومت نے دہلی کی حکومت کے ساتھ ایک معاہدہ کیا ہے۔</p>	<p>.37</p>	<p>دہلی کی حکومت</p>
<p>(1) دہلی کی حکومت نے دہلی کی حکومت کے ساتھ ایک معاہدہ کیا ہے اور اس معاہدہ کے تحت دہلی کی حکومت نے دہلی کی حکومت کے ساتھ ایک معاہدہ کیا ہے۔</p>		
<p>(2) دہلی کی حکومت نے دہلی کی حکومت کے ساتھ ایک معاہدہ کیا ہے اور اس معاہدہ کے تحت دہلی کی حکومت نے دہلی کی حکومت کے ساتھ ایک معاہدہ کیا ہے۔</p>		
<p>(3) دہلی کی حکومت نے دہلی کی حکومت کے ساتھ ایک معاہدہ کیا ہے اور اس معاہدہ کے تحت دہلی کی حکومت نے دہلی کی حکومت کے ساتھ ایک معاہدہ کیا ہے۔</p>		
<p>(4) دہلی کی حکومت نے دہلی کی حکومت کے ساتھ ایک معاہدہ کیا ہے اور اس معاہدہ کے تحت دہلی کی حکومت نے دہلی کی حکومت کے ساتھ ایک معاہدہ کیا ہے۔</p>		
<p>(5) دہلی کی حکومت نے دہلی کی حکومت کے ساتھ ایک معاہدہ کیا ہے اور اس معاہدہ کے تحت دہلی کی حکومت نے دہلی کی حکومت کے ساتھ ایک معاہدہ کیا ہے۔</p>		
<p>(6) دہلی کی حکومت نے دہلی کی حکومت کے ساتھ ایک معاہدہ کیا ہے اور اس معاہدہ کے تحت دہلی کی حکومت نے دہلی کی حکومت کے ساتھ ایک معاہدہ کیا ہے۔</p>		
<p>(س) دہلی کی حکومت نے دہلی کی حکومت کے ساتھ ایک معاہدہ کیا ہے اور اس معاہدہ کے تحت دہلی کی حکومت نے دہلی کی حکومت کے ساتھ ایک معاہدہ کیا ہے۔</p>		




(Handwritten signature in blue ink)


<p>تذکرہ ذیل کے مضامین کے لئے:</p>			
<p>(س) جی ڈی آر (ر) کی ترمیم کے لئے درخواستیں جمع کروانے کے لئے ایجنسیوں کو مطلع کیا گیا ہے۔</p> <p>(ر) جی ڈی آر کے لئے درخواستیں جمع کروانے کے لئے ایجنسیوں کو مطلع کیا گیا ہے۔</p>			
<p>38. ایجنسیوں کو مطلع کیا گیا ہے کہ ان کے پاس موجود تمام دستاویزوں اور ریکارڈوں کی جانچ پڑتال کی جائے اور ان کی کاپیاں جمع کروائی جائیں۔ اس کے علاوہ ایجنسیوں کو مطلع کیا گیا ہے کہ ان کے پاس موجود تمام دستاویزوں اور ریکارڈوں کی جانچ پڑتال کی جائے اور ان کی کاپیاں جمع کروائی جائیں۔ اس کے علاوہ ایجنسیوں کو مطلع کیا گیا ہے کہ ان کے پاس موجود تمام دستاویزوں اور ریکارڈوں کی جانچ پڑتال کی جائے اور ان کی کاپیاں جمع کروائی جائیں۔</p>			<p>ایجنسیوں کو مطلع کیا گیا ہے</p>
<p>39. جی ڈی آر کے لئے درخواستیں جمع کروانے کے لئے ایجنسیوں کو مطلع کیا گیا ہے۔</p> <p>3 (ایجنسیوں) کے لئے درخواستیں جمع کروانے کے لئے ایجنسیوں کو مطلع کیا گیا ہے۔</p>			<p>ایجنسیوں کو مطلع کیا گیا ہے</p>
<p>40. جی ڈی آر کے لئے درخواستیں جمع کروانے کے لئے ایجنسیوں کو مطلع کیا گیا ہے۔</p> <p>ایجنسیوں کو مطلع کیا گیا ہے کہ ان کے پاس موجود تمام دستاویزوں اور ریکارڈوں کی جانچ پڑتال کی جائے اور ان کی کاپیاں جمع کروائی جائیں۔ اس کے علاوہ ایجنسیوں کو مطلع کیا گیا ہے کہ ان کے پاس موجود تمام دستاویزوں اور ریکارڈوں کی جانچ پڑتال کی جائے اور ان کی کاپیاں جمع کروائی جائیں۔</p>			<p>ایجنسیوں کو مطلع کیا گیا ہے</p>
<p>(ر) "جی ڈی آر کے لئے درخواستیں جمع کروانے کے لئے ایجنسیوں کو مطلع کیا گیا ہے۔"</p> <p>ایجنسیوں کو مطلع کیا گیا ہے کہ ان کے پاس موجود تمام دستاویزوں اور ریکارڈوں کی جانچ پڑتال کی جائے اور ان کی کاپیاں جمع کروائی جائیں۔ اس کے علاوہ ایجنسیوں کو مطلع کیا گیا ہے کہ ان کے پاس موجود تمام دستاویزوں اور ریکارڈوں کی جانچ پڑتال کی جائے اور ان کی کاپیاں جمع کروائی جائیں۔</p>			
<p>(س) "جی ڈی آر کے لئے درخواستیں جمع کروانے کے لئے ایجنسیوں کو مطلع کیا گیا ہے۔"</p> <p>ایجنسیوں کو مطلع کیا گیا ہے کہ ان کے پاس موجود تمام دستاویزوں اور ریکارڈوں کی جانچ پڑتال کی جائے اور ان کی کاپیاں جمع کروائی جائیں۔ اس کے علاوہ ایجنسیوں کو مطلع کیا گیا ہے کہ ان کے پاس موجود تمام دستاویزوں اور ریکارڈوں کی جانچ پڑتال کی جائے اور ان کی کاپیاں جمع کروائی جائیں۔</p>			



<p>فهرست مجله علمی شماره 1993 " ۱۹۹۳</p>			
<p>"اقتصادی و اجتماعی شماره ۱۹۹۳" (س) شماره ۱۹۹۳ "اقتصادی و اجتماعی" شماره ۱۹۹۳، در شماره ۱۹۹۳ این شماره در مجله علمی شماره ۱۹۹۳ در شماره ۱۹۹۳، این شماره مجله علمی شماره ۱۹۹۳ در شماره ۱۹۹۳ در شماره ۱۹۹۳ این شماره فهرست مجله علمی شماره ۱۹۹۳ و VIII و ۱۹۹۳ و در شماره ۱ در شماره ۱ و شماره ۱ در شماره ۱ در شماره ۱ در شماره ۱ شماره ۱ در شماره ۱ در شماره ۱ در شماره ۱ در شماره ۱ اقتصادی و اجتماعی شماره ۱۹۹۳</p>			
<p>"اقتصادی و اجتماعی شماره ۱۹۹۳" (س) شماره ۱۹۹۳ در شماره ۱۹۹۳ در شماره ۱۹۹۳ در شماره ۱۹۹۳</p>			
<p>(۱) در شماره ۱ در شماره ۱ در شماره ۱ در شماره ۱ در شماره ۱ شماره ۱ در شماره ۱ در شماره ۱ در شماره ۱ در شماره ۱ شماره ۱ در شماره ۱ در شماره ۱ در شماره ۱ در شماره ۱ شماره ۱ در شماره ۱ در شماره ۱ در شماره ۱ در شماره ۱</p>			
<p>(۲) در شماره ۱ (۱) در شماره ۱ در شماره ۱ در شماره ۱ در شماره ۱ شماره ۱ در شماره ۱ در شماره ۱ در شماره ۱ در شماره ۱ شماره ۱ در شماره ۱ در شماره ۱ در شماره ۱ در شماره ۱ شماره ۱ در شماره ۱ در شماره ۱ در شماره ۱ در شماره ۱ شماره ۱ در شماره ۱ در شماره ۱ در شماره ۱ در شماره ۱</p>			
<p>(۳) در شماره ۲ (۲) در شماره ۱ در شماره ۱ در شماره ۱ در شماره ۱ شماره ۱ در شماره ۱ در شماره ۱ در شماره ۱ در شماره ۱ شماره ۱ در شماره ۱ در شماره ۱ در شماره ۱ در شماره ۱ شماره ۱ در شماره ۱ در شماره ۱ در شماره ۱ در شماره ۱</p>			
<p>"اقتصادی و اجتماعی شماره ۱۹۹۳" (س) شماره ۱۹۹۳ در شماره ۱۹۹۳ در شماره ۱۹۹۳ در شماره ۱۹۹۳</p>			



	phosphoramidocyanida te			
(3)	O-Alkyl (H or $\leq C_{10}$, incl. cycloalkyl) S-2-dialkyl (Me, Et, n-Pr or i-Pr)-aminoethyl alkyl (Me, Et, n-Pr or i-Pr) phosphonothiolates and corresponding alkylated or protonated salts		<p>(3) $\text{O-alkyl (H or } \leq C_{10}, \text{ incl. cycloalkyl) S-2-dialkyl (Me, Et, n-Pr or i-Pr)-aminoethyl alkyl (Me, Et, n-Pr or i-Pr) phosphonothiolates and corresponding alkylated or protonated salts}$</p> <p>في-اوكسايديتو (نمى شوقم ≥ 10، سي-اوكسايديتو رديتو سيوتو) ايس-2-اوكسايديتو ايس-2-اوكسايديتو (دسيوتو، ايس-اوكسايديتو، ايس-اوكسايديتو، ايس-اوكسايديتو) شوقم ايس-اوكسايديتو (ايس-اوكسايديتو)-ايس-اوكسايديتو ايس-اوكسايديتو ايس-اوكسايديتو (دسيوتو، ايس-اوكسايديتو، ايس-اوكسايديتو) شوقم ايس-اوكسايديتو (ايس-اوكسايديتو) ايس-اوكسايديتو ايس-اوكسايديتو ايس-اوكسايديتو ايس-اوكسايديتو ايس-اوكسايديتو ايس-اوكسايديتو ايس-اوكسايديتو ايس-اوكسايديتو ايس-اوكسايديتو ايس-اوكسايديتو ايس-اوكسايديتو ايس-اوكسايديتو ايس-اوكسايديتو</p>	
e.g	VX: O-Ethyl S-2-diisopropylaminoethyl methyl phosphonothiolate	(50782-69-9)	<p>دسيوتو : ايس-اوكسايديتو ايس-2-اوكسايديتو ايس-اوكسايديتو ايس-اوكسايديتو ايس-اوكسايديتو ايس-اوكسايديتو ايس-اوكسايديتو ايس-اوكسايديتو ايس-اوكسايديتو ايس-اوكسايديتو ايس-اوكسايديتو ايس-اوكسايديتو</p>	
(4)	Sulfur mustards:		<p>(4) سوكسايديتو دسيوتو ايس-اوكسايديتو:</p>	
	2-Chloroethylchloromethylsulfide	(2625-76-5)	<p>2-ايس-اوكسايديتو ايس-اوكسايديتو ايس-اوكسايديتو ايس-اوكسايديتو ايس-اوكسايديتو</p>	
	Mustard gas: Bis(2-chloroethyl)sulfide	(505-60-2)	<p>دسيوتو ايس-اوكسايديتو: ايس-اوكسايديتو (2-ايس-اوكسايديتو) ايس-اوكسايديتو ايس-اوكسايديتو</p>	
	Bis(2-chloroethylthio)methane	(63869-13-6)	<p>ايس-اوكسايديتو (2-ايس-اوكسايديتو) ايس-اوكسايديتو ايس-اوكسايديتو</p>	
	Sesquimustard: 1,2-Bis(2-chloroethylthio)ethane	(3563-36-8)	<p>ايس-اوكسايديتو ايس-اوكسايديتو: 1,2-ايس-اوكسايديتو (2-ايس-اوكسايديتو) ايس-اوكسايديتو ايس-اوكسايديتو ايس-اوكسايديتو</p>	




	1,3-Bis(2-chloroethylthio)-n-propane	(63905-10-2)	1,3- 2-2-1,3- 2-2-1,3- 2-2-1,3-	
	1,4-Bis(2-chloroethylthio)-n-butane	(142868-93-7)	1,4- 2-2-1,4- 2-2-1,4-	
	1,5-Bis(2-chloroethylthio)-n-pentane	(142868-94-8)	1,5- 2-2-1,5- 2-2-1,5-	
	Bis(2-chloroethylthiomethyl) ether	(63918-90-1)	2-2- 2-2- 2-2-	
	O-Mustard: Bis(2-chloroethylthioethyl) ether	(63918-89-8)	1- 2-2- 2-2-	
(5)	Lewisites:		2-2- 2-2- 2-2-	(5)
	Lewisite 1: 2-Chlorovinylidichloroarsine	(541-25-3)	1: 2-2- 2-2-	
	Lewisite 2: Bis(2-chlorovinyl)chloroarsine	(40334-69-8)	2: 2-2- 2-2-	
	Lewisite 3: Tris(2-chlorovinyl)arsine	(40334-70-1)	3: 2-2- 2-2-	
(6)	Nitrogen mustards:		2-2- 2-2- 2-2-	(6)



Handwritten signature in blue ink.

	HN1: Bis(2-chloroethyl)ethylamine	(538-07-8)	أنتيمون (2): ثنائي كلورو إيثيل أمين إيثيل	
	HN2: Bis(2-chloroethyl)methylamine	(51-75-2)	أنتيمون (2): ثنائي كلورو إيثيل أمين ميثيل	
	HN3: Tris(2-chloroethyl)amine	(555-77-1)	أنتيمون (3): ثلاثي كلورو إيثيل أمين	
(7)	Saxitoxin	(35523-89-8)	سكسيتوكسين	(7)
(8)	Ricin	(9009-86-3)	ريسين	(8)
(13)	P-alkyl (H or $\leq C_{10}$, incl. cycloalkyl) N-(1-(dialkyl($\leq C_{10}$, incl. cycloalkyl)amino))alkylidene(H or $\leq C_{10}$, incl. cycloalkyl) phosphonamidic fluorides and corresponding alkylated or protonated salts		1-ألكيل إيثيلين ثنائي كلورو إيثيل أمين (أنتيمون ≥ 10 ، سيكلو ألكيل) N-(1-ثنائي ألكيل ($\leq C_{10}$ ، سيكلو ألكيل) أمينو) ألكيلين إيثيلين ثنائي كلورو إيثيل أمين (أنتيمون ≥ 10 ، سيكلو ألكيل) فوسفوناميدية الفلوريدات والملح المقابل ألكيل أو بروتون	(13)
Eg.	N-(1-(di-n-decylamino)-n-decylidene)-P-decylphosphonamidic Fluoride	2387495-99-8	أنتيمون (1)-1-ثنائي ن-ديسيل أمينو-ن-ديسيلين إيثيلين ثنائي كلورو إيثيل أمين (أنتيمون ≥ 10 ، سيكلو ألكيل) فوسفوناميدية الفلوريدات والملح المقابل ألكيل أو بروتون	أنتيمون
	Methyl-(1-(diethylamino)ethylidene)ph	2387496-12-8	أنتيمون (1)-1-ثنائي إيثيل أمينو-إيثيلين ثنائي كلورو إيثيل أمين (أنتيمون ≥ 10 ، سيكلو ألكيل) فوسفوناميدية الفلوريدات والملح المقابل ألكيل أو بروتون	



	osphonamidofluoridate			
(14)	O-alkyl (H or $\leq C_{10}$, incl. cycloalkyl) N-(1-(dialkyl($\leq C_{10}$, incl. cycloalkyl)amino))alkylidene(H or $\leq C_{10}$, incl. cycloalkyl) phosphoramidofluoridates and corresponding alkylated or protonated salts		<p>(14) O-alkyl (H or $\leq C_{10}$, incl. cycloalkyl) N-(1-(dialkyl($\leq C_{10}$, incl. cycloalkyl)amino))alkylidene(H or $\leq C_{10}$, incl. cycloalkyl) phosphoramidofluoridates and corresponding alkylated or protonated salts</p>	
Eg.	O-n-Decyl N-(1-(di-n-decylamino)-n-decylidene)phosphoramidofluoridate	2387496-00-4	<p>O-n-Decyl N-(1-(di-n-decylamino)-n-decylidene)phosphoramidofluoridate</p>	دسوفو
	Methyl (1-(diethylamino)ethylidene)phosphoramidofluoridate	2387496-04-8	<p>Methyl (1-(diethylamino)ethylidene)phosphoramidofluoridate</p>	
	Ethyl (1-(diethylamino)ethylidene)phosphoramidofluoridate	2387496-06-0	<p>Ethyl (1-(diethylamino)ethylidene)phosphoramidofluoridate</p>	
(15)	Methyl-(bis(diethylamino)methylene)phosphoramidofluoridate	2387496-14-0	<p>Methyl-(bis(diethylamino)methylene)phosphoramidofluoridate</p>	(15)
(16)	Carbamates (quaternaries and bisquaternaries of dimethylcarbamoyloxypyridine		<p>Carbamates (quaternaries and bisquaternaries of dimethylcarbamoyloxypyridine</p>	(16)



	s) Quaternaries of dimethylcarbamoyloxy pyridines: 1-[N,N-dialkyl(≤C10)-N-(n-(hydroxyl, cyano, acetoxy)alkyl(≤C10)) ammonio]-n-[N-(3-dimethylcarbamoxy-α-picolinyl)-N,N-dialkyl(≤C10) ammonio]decane dibromide (n=1-8)		<p>٤ ٥ ٦ ٧ ٨ ٩ ١٠ ١١ ١٢ ١٣ ١٤ ١٥ ١٦ ١٧ ١٨ ١٩ ٢٠ ٢١ ٢٢ ٢٣ ٢٤ ٢٥ ٢٦ ٢٧ ٢٨ ٢٩ ٣٠ ٣١ ٣٢ ٣٣ ٣٤ ٣٥ ٣٦ ٣٧ ٣٨ ٣٩ ٤٠ ٤١ ٤٢ ٤٣ ٤٤ ٤٥ ٤٦ ٤٧ ٤٨ ٤٩ ٥٠ ٥١ ٥٢ ٥٣ ٥٤ ٥٥ ٥٦ ٥٧ ٥٨ ٥٩ ٦٠ ٦١ ٦٢ ٦٣ ٦٤ ٦٥ ٦٦ ٦٧ ٦٨ ٦٩ ٧٠ ٧١ ٧٢ ٧٣ ٧٤ ٧٥ ٧٦ ٧٧ ٧٨ ٧٩ ٨٠ ٨١ ٨٢ ٨٣ ٨٤ ٨٥ ٨٦ ٨٧ ٨٨ ٨٩ ٩٠ ٩١ ٩٢ ٩٣ ٩٤ ٩٥ ٩٦ ٩٧ ٩٨ ٩٩ ١٠٠</p> <p>١- [N,N-dialkyl(≤C10)-N-(n-(hydroxyl, cyano, acetoxy)alkyl(≤C10)) ammonio]-n-[N-(3-dimethylcarbamoxy-α-picolinyl)-N,N-dialkyl(≤C10) ammonio]decane dibromide (n=1-8)</p>	
Eg.	1-[N,N-dimethyl-N-(2-hydroxyethylammonio)-10-[N-(3-dimethylcarbamoxy-α-picolinyl)-N,N-dimethylammonio]decane dibromide	77104-62-2	<p>1- [N,N-dimethyl-N-(2-hydroxyethylammonio)-10-[N-(3-dimethylcarbamoxy-α-picolinyl)-N,N-dimethylammonio]decane dibromide</p>	٧٧١٠٤-٦٢-٢
	Bisquaternaries of dimethylcarbamoyloxy pyridines: 1,n-Bis“N-(3-dimethylcarbamoxy-α-picolyl)-N,N-dialkyl(≤C10) ammonio]-alkane-(2,(n-1)-dione) dibromide (n=2-12)		<p>١, n-Bis“N-(3-dimethylcarbamoxy-α-picolyl)-N,N-dialkyl(≤C10) ammonio]-alkane-(2,(n-1)-dione) dibromide (n=2-12)</p>	
Eg.	1,10-Bis“N-(3-dimethylcarbamoxy-α-picolyl)-N-ethyl-N-methylammonio”decane-2,9-dione dibromide	77104-00-8	<p>1,10-Bis“N-(3-dimethylcarbamoxy-α-picolyl)-N-ethyl-N-methylammonio”decane-2,9-dione dibromide</p>	٧٧١٠٤-٠٠-٨
B.	Precursors:		<p>Precursors:</p>	



(9)	Alkyl (Me, Et, n-Pr or i-Pr) phosphonyldifluorides		(9)
	e.g. DF: Methylphosphonyldifluoride	(676-99-3)	
(10)	O-Alkyl (H or $\leq C_{10}$, incl. cycloalkyl) O-2-dialkyl (Me, Et, n-Pr or i-Pr)-aminoethyl alkyl (Me, Et, n-Pr or i-Pr) phosphonites and corresponding alkylated or protonated salts		(10)
e.g.	QL: O-Ethyl O-2-diisopropylaminoethyl methylphosphonite	(57856-11-8)	
(11)	Chlorosarin: O-Isopropyl methylphosphonochloridate	(1445-76-7)	(11)
(12)	Chlorosoman: O-Pinacolyl methylphosphonochloridate	(7040-57-5)	(12)



Handwritten signature in blue ink.

جدول 2

#	Chemical name	CAS registry number	عدد المادة	#
A.	Toxic chemicals:		عدد المواد السامة	أ
(1)	Amiton: O,O-Diethyl S-[2-(diethylamino)ethyl] phosphorothiolate and corresponding alkylated or protonated salts	(78-53-5)	عدد المواد: O,O-ثنائي إيثيل إثير [2-(ثنائي إيثيل أمينو) إيثيل] إثير فسفوروثيولاته والمواد التي لها أملاح ألكيلية أو أملاح بروتونية متمثلة في أحادي إيثيل إثير ثنائي إيثيل إثير ثلاثي إيثيل إثير	(1)
(2)	PFIB: 1,1,3,3,3-Pentafluoro-2-(trifluoromethyl)-1-propene	(382-21-8)	عدد المواد: 1-1,3,3,3-ثنائي إيثيل إثير 2-(ثنائي إيثيل إثير) -1 ثلاثي إيثيل إثير	(2)
(3)	BZ: 3-Quinuclidinyl benzilate (*)	(6581-06-2)	عدد المواد: 3-ثنائي إيثيل إثير بنزواته (*)	(3)
B.	Precursors:		عدد المواد الأولية	ب
(4)	Chemicals, except for those listed in Schedule 1, containing a phosphorus atom to which is bonded one methyl, ethyl or propyl (normal or iso) group but not further carbon atoms,		عدد المواد 1 والتي تحتوي على ذرات فوسفور محملة بمجموعة إيثيل، إثير، إثير (إثير، إثير، إثير) أو مجموعة إيثيل، إثير، إثير لكن لا تحتوي على ذرات كربون إضافية	(4)
e.g.	Methylphosphonyl dichloride	(676-97-1)	عدد المواد: ثنائي إيثيل إثير ثنائي إيثيل إثير ثنائي إيثيل إثير	ج



Handwritten signature in blue ink.

بی قرودی 2

نادیانو راجیئر ڈیٹرائڈی سو فریڈسٹائو بریڈر ڈیڈی بریڈ
سو ڈیڈی ڈیٹرائڈی سو فریڈسٹائو بریڈر ڈیڈی بریڈ

✓	سو فریڈسٹائو بریڈر ڈیڈی بریڈ	-	سو فریڈسٹائو بریڈر ڈیڈی بریڈ	SC	سو فریڈسٹائو بریڈر ڈیڈی بریڈ	0	سو فریڈسٹائو بریڈر ڈیڈی بریڈ
---	------------------------------	---	------------------------------	----	------------------------------	---	------------------------------

09.11.2022	4	0:07	✓	0	✓	✓
31.10.2022	3	0:58	✓	✓	✓	✓
25.10.2022	2	0:59	✓	✓	✓	✓
18.10.2022	1	0:15	✓	✓	SC	✓
			سو فریڈسٹائو بریڈر ڈیڈی بریڈ	سو فریڈسٹائو بریڈر ڈیڈی بریڈ	سو فریڈسٹائو بریڈر ڈیڈی بریڈ	سو فریڈسٹائو بریڈر ڈیڈی بریڈ
			سو فریڈسٹائو بریڈر ڈیڈی بریڈ	سو فریڈسٹائو بریڈر ڈیڈی بریڈ	سو فریڈسٹائو بریڈر ڈیڈی بریڈ	سو فریڈسٹائو بریڈر ڈیڈی بریڈ
			سو فریڈسٹائو بریڈر ڈیڈی بریڈ	سو فریڈسٹائو بریڈر ڈیڈی بریڈ	سو فریڈسٹائو بریڈر ڈیڈی بریڈ	سو فریڈسٹائو بریڈر ڈیڈی بریڈ
			سو فریڈسٹائو بریڈر ڈیڈی بریڈ	سو فریڈسٹائو بریڈر ڈیڈی بریڈ	سو فریڈسٹائو بریڈر ڈیڈی بریڈ	سو فریڈسٹائو بریڈر ڈیڈی بریڈ
سو فریڈسٹائو بریڈر ڈیڈی بریڈ	04	3:13	4	3	3	4



Handwritten signature in blue ink.